

43 مَعَ الرِّكَعَيْنَ

وَارْكَعُوا

ركوع کرنے والوں کے ساتھ

اور رکوع کرو

وَاتُوا الزَّكُوَةَ

اور ادا کرو زکوٰۃ،

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

اور قائم کرو نماز

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ

وَأَنْتُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ

حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب،

اپنے آپ کو

وَتَنَسُّونَ

اور تم بھول جاتے ہو

بِالْبَرِّ

یعنی کا،

کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو

وَالصَّلَاةُ

بِالصَّابِرِ

اور نماز کے ذریعے،

صبر کے ذریعے

وَاسْتَعِينُوا

اور مدد حاصل کرو

44 أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کیا پھر تم صحیح نہیں؟

الَّذِينَ يَظْنَنُونَ

إِلَّا عَلَى الْحَشِيعِينَ 45

لَكَبِيرَةٌ

وَإِنَّهَا

وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں

مگر عاجزی کرنے والوں پر (نہیں)،

بڑی (دشوار) ہے

اور بلاشبہ وہ

46 إِلَيْهِ رَجِعُونَ

وَأَنَّهُمْ

رَبِّهِمْ

أَنَّهُمْ مُلْقُوا

لوٹنے والے ہیں۔

اسی کی طرف

اور یہ کہ وہ

اپنے رب سے

مختصر شرح

» نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکردا اکرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے اور اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔

» جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرا کی خبر گیری وغیرہ۔

حدیث

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہو گا، اگر وہ ٹھیک رہی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد ہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہو گی تو اللہ تعالیٰ (فرشتؤں سے) فرمائے گا: دیکھو، میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے؟ چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کردی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہو گا۔“ (ترمذی: 413)

» ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔“ (صحیح مسلم: 82)

» زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے؛ کیونکہ اسی کی وجہ سے عام طور پر لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے۔

» وَارْكَعُوا مَعَ الرِّكَعَيْنَ: دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مزدور ہو یا حاکم۔ اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور تواضع پیدا ہوتا ہے۔

- » بِرَبِّ اللَّهِ كُوْرَاضِيْ كَرْنَے کی نیت سے نیک کام کرنا، جیسے اللَّهُ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف، انسانیت کی خدمت وغیرہ۔
- » دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری ہے اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے، ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے۔
- » جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیجیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یوں کہتا رہے کہ میں خود عمل نہیں کرتا ہوں تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا۔
- » جب کبھی اللَّہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعہ اللَّہ کی مدد حاصل کیجیے؛ اس لیے کہ نماز اللَّہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔
- » اللَّہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللَّہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے۔ اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔“ (بخاری: 1469)
- » نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے، وہ اس طرح کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو اور خاص طور پر اللَّہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد کیجیے۔

اسباق، دعا اور پلان

ان آیات سے کئی اسباق، دعائیں اور پلان بنائے جاسکتے ہیں۔ نیچے بطور مثال صرف چند کا ذکر ہے۔

» نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو۔

» جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو۔

» صبر اور نماز کے ذریعہ اللَّہ کی مدد طلب کرو۔

» موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔

دعا: اے اللَّہ! جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے والا بنائیے۔

پلان: میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن ہوں۔

اسماء اور افعال

اس سبق کی آیات میں آنے والے کچھ اسماء اور افعال نیچے دیے گئے ہیں۔

| اعمال: نیچے دیے گئے افعال کی API کے ساتھ مشتق کیجیے | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|---------|-----------|--------------|
| معانی | کام کا نام | اسم مفعول | اسم فاعل | فعل امر | فعل مضارع | مادہ اور کوڈ |
| رکوع کرنا | رُكُوع | يَرْكُعُ | إِرْكَعُ | رَاكِعٌ | - | رکع |
| حکم دینا | أَمْرٌ | يَأْمُرُ | أُمْرٌ | أَمْرٌ | أَمْرٌ | ز |
| سمجھنا | عَقْلٌ | يَعْقِلُ | إِعْقَلٌ | عَاقِلٌ | مَعْقُولٌ | عقل |
| ڈرنا | خَشْعَعٌ | يَخْشَعُ | إِخْشَعٌ | خَاشِعٌ | خَاشِعٌ | خش |
| لوٹنا | رُجُوعٌ | يَرْجِعُ | إِرْجَعٌ | رَاجِعٌ | رَاجِعٌ | رج |
| بھولنا | نَسِيٰ | يَنْسِيٰ | إِنْسَٰ | نَاسٍ | مَنْسِيٰ | نسی |
| تلاؤت کرنا | تَلَاؤٌ | يَتَلَّوُ | أُتَلُّ | تَالٌ | مَتَلَّوٌ | تلاؤ |
| گمان کرنا | ظَنٌّ | يَظْنُونَ | ظُنٌّ | ظَانٌ | مَظْنُونٌ | ظن |

| اسماء | | | |
|-------------|------------------|-------------|---------------|
| معانی | جمع | واحد | |
| نفس، جان | أَنْفُس | أنفس | نَفْس |
| كتاب | كُتُب | كتاب | كتاب |
| بڑی × صغیرة | بُرْيٰ × صَغِيرٰ | بڑی × صغیرة | گبیرة × صغیرة |